



محدث فلسفی

سوال

مسجد کی طرف پیدل یا سواری پر جانے کا ثواب

جواب

سوال: السلام علیکم حدیث مبارکہ کا موضوع ہے جو جتنے قدم مسجد میں چل کر جانے اس کو ہر قدم پر ثواب ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا سواری (سائکل، موٹر سائکل، کار وغیرہ) پر مسجد جانے والوں کو بھی یہی ثواب ملتا ہے یا نہیں؟

جواب: شیخ صالح المجنف اس بارے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

سوال: کیا مسجد پیدل چل کر جانا افضل ہے یا سواری پر جانا؟

الحمد للہ:

آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پیدل چل کر مسجد جانے کی بہت عظیم فضیلت اور اجر و ثواب ثابت ہے، اور نمازوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اسے حاصل ہوتا ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہو الوبہ ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"کیا میں تمیں ایسی چیز نہ بتاؤ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟"

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ناپسند ہوتے ہوئے بھی پورا وضوء کرنا، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرا نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط (معنی پہرہ داری) ہے یہی رباط ہے"

صحیح مسلم حدیث نمبر (251).

اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"نمازوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب مالک وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے چل کر آتے"

صحیح مسلم حدیث نمبر (662).

چنانچہ اور اس سے قبل ولی حدیث مسجد سے دور گھر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے: جس کی بنا پر مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھتے ہی جس کے تقبیح میں اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور کثرت قدم گھر دور ہونے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسجد میں بار بار آنے سے ہوتا ہے

ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کا علم ہے جو مسجد سے بہت دور اور کوئی نہیں، اس شخص کی کوئی بھی نماز، جماعت نہ مخصوصی، چنانچہ اسے کہا گیا، یا میں



نے اسے کہا:

اگر تم گدھا خرید لو جس اندھیرے اور گرمی کی شدت میں سوار ہوا کرو؟

اس نے جواب دیا: مجھے بھا نہیں لھا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد پیل چل کر جانا اور واپس پلنے کھراہل و عیال میں آنے کا جرو ٹواب لھا جائے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اللّٰہُ تَعَالٰی نَفَسَكَ لَيْسَ بِكَمٌ يَسِيرٌ سَبَقَكَ مَجْمُوعٌ كَرِدْيَا"

صحیح مسلم حدیث نمبر (663)۔

میرے مسلمان بھائی آپ رب کریم کی جانب سے اس اجر عظیم کو دیکھیں اس لیے کہ یہ حدیث نماز کے لیے جانے کی طرح واپس پلنے کے قدموں کے اجر و ٹواب پر بھی دلالت کرتی ہے، اسی لیے اس صحابی نے باوجود پلنے گھر کے مسجد سے دور ہونے کے پیل چلنے کو ترجیح دی

الوہبریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جو شخص پلنے گھر میں وضوء کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف پیل چلتا ہے، اس کا ایک قدم گناہ مٹاتا اور دوسرا قدم ایک درجہ بلند کرتا ہے"

صحیح مسلم حدیث نمبر (666)۔

اور بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اندھیرے میں مساجد کی طرف پیل چل کر آنے والوں کو روز قیامت میں نور کی خوشخبری دے دو"

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (561) علامہ البافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے

دلیل الفتاہین میں ہے:

الظلم: یہ ظلمہ کی جمع ہے، اور یہ عشاء اور فجر کے اندھیرے کے کوشال ہے، اور حدیث میں نماز کے لیے پیل چلنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، چاہے مسافت زیادہ ہو یا کم، اور نماز بجماعت کے لیے رات کے اندھیرے میں چلنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے "انتی

ویکھیں: دلیل الفتاہین (3/558-559)۔

اور ان شاء اللہ فجر اور عشاء کی نماز بجماعت ادا کرنے والے کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، چاہے راستے میں روشنی بھی ہو، کونکہ یہ دونوں نمازوں میں رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں

اس اور اس طرح کی دوسری احادیث میں مسلمان کو پیل چل کر مسجد آنے کی ترغیب ہے، نہ کہ سوار ہو کر، چاہے اس کا گھر مسجد سے دور ہی ہو، جب تک اس میں مشقت نہ ہو، یا پھر کوئی عذر مٹا پڑھا پا وغیرہ، اور اگر بغیر کسی مشقت کے مسجد تک پیل چلا جاسکتا ہو تو وہ پلنے آپ کو گاڑی پر سوار ہونے کا عادی نہ بنائے



محدث فلسفی

مسجد کی طرف پیدل چلنے میں ان عظیم فنائیں گناہوں کا مٹا، اور درجات کی بلندی، اور درجات کی بلندی، اور اجر عظیم، اور روز قیامت نورتام کے علاوہ بھی کئی قسم کے عظیم پدنسی فوائد بھی ہیں:

مسجد کی طرف پیدل جانا بذاته ورزش ہے، جس کے فوائد کا شمار ہی نہیں؛ اور اللہ کے حکم سے جسم کی تقویت اور اسے چست رکھنے میں اس کا بہت دخل ہے؛ لیکن اس میں امراض اور آفات کا مقابلہ کرنے کی قوت یعنی قوت مدافعت پیدا ہو سکے

یقیناً روزانہ اللہ تعالیٰ کے گروں کی طرف مقررہ اور مختلف اوقات میں چل کر جانے میں جوڑوں کی نشاط، اور عضلات کی ورزش اور جسم کی حالت کی بہتری ہے

جیسا کہ مسجدوں کی طرف پیدل جانے میں ان امراض سے بچاؤ ہے جو سستی اور زیادہ بیٹھنے کا باعث بنتے ہیں اس میں سب سے بڑی بیماری موٹاپا ہے؛ کیونکہ پیدل چلنے سے چربی پیگھلتی ہے، اور کسریوں کم ہوتا ہے

جیسا کہ پیدل چنادر کے امراض کا بھی علاج ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے کام کا حج اور مشقت اور محمد کی برداشت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے خون کا دوران زیادہ منظم ہوتا ہے

اسی طرح مسجد کی طرف پیدل چلتا ہے اور لمبی سوچوں کا بھی علاج ہے؛ جبکہ عقل اپنی طبعی اور نیچرل حالت پر واپس پہنچت آتی ہے، اور عضلانی اور عصی استرخاء پیدا ہوتا ہے، یعنی کچھ اور ختم ہوتا ہے

لحمائی طور پر مسجد کی طرف پیدل چلنے میں بہت سے جسمانی اور صحت کے فوائد ہیں، جو آج کی جدید طب اور میڈیکل بھی بیان کرتی ہے، اور یہ لیے عامل فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لپنے مومن بندوں پر دنیا میں ہی نعمت ہے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر بلیک کی

اور اس کے علاوہ آخرت میں اس کا اجر عظیم اور نورتام بھی حاصل ہوگا ان شاء اللہ

ویکھیں : احکام حضور المساجد (60-62) تالیف فضیلہ الشیخ عبد اللہ الفوزان

واللہ اعلم۔